



ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020: کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 10 رنز سے شکست دے دی

• بابر اعظم اور عماد وسیم کی نصف سنچریاں

کراچی، 21 فروری 2020ء:

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو شکست دے دی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا گئے میچ میں کراچی کنگز نے 10 رنز سے کامیابی حاصل کی۔

پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی کنگز نے مقررہ بیس اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ اوپنر بابر اعظم نے 78 اور کپتان عماد وسیم نے 50 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلیں۔ جواب میں پشاور زلمی کی ٹیم مقررہ بیس اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 191 رنز ہی بنا سکی۔

تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو میزبان ٹیم کے ابتدائی 2 کھلاڑی 73 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہو گئے۔ تین سال بعد ایچ بی ایل پی ایس ایل میں کم بیک کرنے والے اوپنر شرجیل خان 19 اور کیمرون ڈیلپورٹ 20 رنز بنا کر پویلین واپس لوٹے، جس کے بعد اوپنر بابر اعظم اور کپتان عماد وسیم نے تیسری وکٹ کے لیے 97 رنز کی شراکت قائم کر کے ٹیم کی پوزیشن مستحکم کر دی۔ بابر اعظم نے 56 گیندوں پر 78 اور عماد وسیم نے 30 گیندوں پر 50 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلیں۔ اختتامی اوور میں مڈل آرڈر بلے باز افتخار احمد نے 3 گیندوں پر 16 رنز بنا کر ٹیم کا مجموعہ 200 کے پار لگا دیا۔ کراچی کنگز نے مقررہ بیس اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کے حسن علی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

جواب میں اوپنر کامران اکمل کے 26 گیندوں پر 43 رنز کے باوجود پشاور زلمی کی ابتدائی 4 وکٹیں محض 81 رنز پر گر گئیں۔ جس کے بعد انگلینڈ کے دو کرکٹرز لیام لیونگ اسٹون اور لیام ڈاسن کے درمیان 47 رنز کی شراکت قائم ہوئی تاہم لیام ڈاسن 22 رنز بنا کر

اؤٹ ہو گئے۔ چھٹی وکٹ کے لیے لیام لیونگ اسٹون اور کپتان ڈیرن سیمی نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے میچ میں سنسنی پھیلا دی۔ دونوں کھلاڑیوں نے 31 گیندوں پر 62 رنز کی برق رفتار شراکت قائم کی تاہم وہ پشاور زلمی کو فتح نہ دلا سکے۔ لیام لیونگ اسٹون 29 گیندوں پر 54 رنز بنا کر ناٹ اؤٹ رہے جبکہ ڈیرن سیمی 20 گیندوں پر 30 رنز بنا کر اؤٹ ہوئے۔ پشاور زلمی کی ٹیم مقررہ بیس اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 191 رنز ہی بنا سکی۔ کراچی کنگز کے عمید آصف اور کرس جارڈن نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

میچ میں سب سے زیادہ 78 رنز اسکور کرنے پر بابر اعظم کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

ہفتہ کو لیگ کے پانچویں ایڈیشن میں 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی جبکہ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مدمقابل آئیں گی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com
@thePSLT20
@thePSL
PakistanSuperLeague
@thepsi
PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4

